

FrontPage 2003

www.iqbalkalmati.blogspot.com

فرنٹ پیج کی خصوصیات

فرنٹ پیج کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں کسی لینگویج کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

فرنٹ پیج میں ہم ہر طرح کے گرافکس با آسانی استعمال کر سکتے ہیں۔

خوبصورت Templates کی موجودگی میں ہم اپنے ویب سائٹ کو با آسانی خوبصورت بنا سکتے ہیں۔

فرنٹ پیج میں ہر قسم کے بٹنز بنائے جاسکتے ہیں مثلاً پلاسٹک، 3D، ایمبوز وغیرہ

فرنٹ پیج مختلف سافٹ ویئر کو سپورٹ کرتا ہے۔

FrontPage 2003

فرنٹ پیج میں مختلف تھیمز موجود ہے جن کو استعمال کر کے ویب سائٹ کے لیے بہترین فارمیٹنگ کی جاسکتی ہے۔

پائپر لنکس بنانے کی سہولت موجود ہے۔

فرنٹ پیج میں فوٹو گیلری کی سہولت موجود ہے۔

فرنٹ پیج میں ٹیبل میں کام کرنے کے لیے بہترین ٹولز موجود ہیں۔

فرنٹ پیج میں ڈیٹا بیس کے لیے فارم بنائے جاسکتے ہیں۔

ہر قسم کی اینی میشن تصاویر کو فرنٹ پیج میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

فرنٹ پیج میں مختلف ویب پیجز کو ڈریگ کر کے ترتیب دیا جاسکتا ہے۔

فرنٹ پیج میں Frame Pages بنانے کی سہولت موجود ہے۔

فرنٹ پیج کے ذریعے کسی بھی ویب سائٹ کو تمام تر فیوچر سمیٹ ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

فرنٹ پیج میں کسی بھی ویب سائٹ کے عناصر کو اپنی ویب سائٹ میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

فرنٹ پیج کے ذریعے آپ اپنی ویب سائٹ کو با آسانی پبلش کر سکتے ہیں۔

فرنٹ پیج کے ذریعے اپنی ویب سائٹ کو با آسانی اپ ڈیٹ کیا جاسکتا ہے۔

FrontPage 2003

انٹرنیٹ کیا ہے؟

آج ہمیں ہر جانب انٹرنیٹ کا بول بالا ہے۔ اور ہر پڑھا لکھا شخص انٹرنیٹ کے نام سے بہر حال ضرور واقف ہوگا۔ ہم اپنے پہلی کلاس میں انٹرنیٹ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ کیا ہے؟ اور کس طرح کام کرتا ہے؟ انٹرنیٹ کا تعلق نہ تو کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے ہے اور نہ ہی یہ کوئی سافٹ ویئر ہے، انٹرنیٹ دراصل ایک کمپیوٹر کا دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ رابطے کا نام ہے۔ جو کہ ٹیلی فون لائن، کیبل کی مدد سے ایک مخصوص طریقے سے جڑے ہوتے ہیں اس طریقے کار کو (TCP/IP) کہتے ہیں۔ جس کے ذریعے لوگوں کو کمپیوٹر کے اندر معلومات تک رسائی ممکن ہوتی ہیں۔

انٹرنیٹ کا جب آغاز ہوا تھا اسے صرف تعلیمی و حکومتی ادارے استعمال کرتے تھے۔ پھر بہت جلد اس میں وسعت اور جد آئی اور کچھ ہی عرصے بعد اس میں کاروباری ادارے، صنعتی ادارے، مختلف تنظیمیں، پیشہ اور عام افراد بھی شامل ہو گئے اس طرح پوری دنیا میں انٹرنیٹ کا ایک ایسا جال پھیل گیا جس کی مدد سے ہر فرد اپنے گھر بیٹے پوری دنیا سے ہمہ وقت رابطے میں رہتا ہے، اور اب انٹرنیٹ سے ہر وقت کڑوروں افراد جڑے ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ ہر بہت سارے شعبہ جات بن چکے ہیں جن میں سے کچھ کے نام یہ ہیں۔

ویب سائٹس	﴿	چیننگ	﴿
ای میل	﴿	وائس چیننگ	﴿
آن لائن خرید و فروخت	﴿	ویڈیو کانفرنس	﴿
آن لائن بینکنگ	﴿	نیوز گروپس	﴿
انٹرنیٹ فون و فیکس	﴿	آن لائن ایجوکیشن	﴿

FrontPage 2003

Class 4

ویب سائٹس کیا ہے؟

ویب سائٹس بھی انٹرنیٹ کی طرح نہ کوئی ہارڈ ویئر ہے اور نہ کوئی سافٹ ویئر، بلکہ یہ مختلف پیجز کا مجموعہ ہے جن میں مختلف معلومات (ڈیٹا) کو محفوظ کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کے لیے پبلش کیا جاتا ہے۔

ہر ویب سائٹس کا اپنا ایک منفرد ایڈریس ہوتا ہے، جس کی مدد سے انٹرنیٹ میں موجود اربوں ویب سائٹس میں سے پہچان میں مدد ملتی ہے۔ ہر ویب سائٹ کا ایڈریس دوسرے ویب سائٹ سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً

(www.urdupages.com)

(www.pakistan.gov.pk)

اس ایڈریس کے عموماً تین یا چار حصے ہوتے ہیں۔

پہلے حصے سے (www) ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ویب سائٹس کس قسم کی ہے۔ اور دوسرے ویب حصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ویب سائٹس کمپنی، ادارے یا فرد کی ہے۔ مثلاً urdupages سے مراد یہ ہے کہ یہ ویب سائٹ اردو پیجز کی ملکیت ہے۔ ایڈریس کے تیسرے حصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ویب سائٹس کس نوعیت کی ہے۔

مثلاً (com) سے مراد کمرشل، (org) سے مراد آرگنائزیشن، (edu) سے مراد ایجوکیشن کچھ Extenstions یہ مندرجہ ذیل ہے۔

net	(نیٹ کے حامل ادارے)	tv	(ٹی وی چینلز کے لیے)
gov	(گورنمنٹ کے لیے)	biz	(بزنس سے منسلک اداروں کے لیے)
mil	(ملٹری اداروں کے لیے)		وغیرہ وغیرہ

ویب سائٹس کے چوتھے حصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ویب سائٹس کی ملک کی ہے۔

مثلاً (pk) سے مراد پاکستان، (uk) سے مراد انگلینڈ

FrontPage 2003


Class 4

السلام وعلیکم!!

ساتھیو!! آج کے کلاس میں ہم فرنٹ پیج کے انسٹالیشن کا طریقہ کار جاننے کی کوشش کریں گے۔ فرنٹ پیج پچھلے ورژن میں مائیکروسافٹ آفس کے دیگر پروگرامز کے ساتھ ہی انسٹال ہو جایا کرتا تھا جیسے کہ ورڈ، ایکسل، پاورپوائنٹ وغیرہ.....) اب ویب ڈیزائننگ کی اہمیت کے پیش نظر مائیکروسافٹ فرنٹ پیج 2003 کو ایک پروگرام کی حیثیت دے دی ہے لہذا فرنٹ پیج 2003 کو الگ سی ڈی سے انسٹال کرنا ہوگا (مارکیٹ سے مائیکروسافٹ آفس 2003 کی ایسی سی ڈی خریدیں جس میں فرنٹ پیج بھی شامل ہو)


فرنٹ پیج کی انسٹالیشن

مائیکروسافٹ فرنٹ پیج 2003 کی سی ڈی سی ڈی روم میں ڈائیس Setup پر کلک کریں تو انسٹالیشن شروع ہو جائے گی۔



FrontPage 2003

Class 4



آپ سے Serial No کا پوچھا جائے گا آپ Serial No ٹائپ کر کے Next کے بٹن پر کلک کریں

انٹالسٹیشن کے دوران آپ سے پوچھا جائے گا کہ انٹالسٹیشن کس طرح جاری رکھنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے تین آپشن موجود ہوں گے

Custom Complete Typical

اگر آپ فرنٹ پیج کے تمام سہولیات سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو Complete کے آپشن کو سلیکٹ کریں اور انٹالسٹیشن جاری رکھے کچھ ہی دیر میں فرنٹ پیج 2003 کی انٹالسٹیشن مکمل ہو جائے گی۔

اگلی کلاس میں انشا اللہ ہم فرنٹ پیج Stratcher کو سمجھنے کی کوشش کریں گے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

FrontPage 2003

السلام علیکم ساتھیو!!


آج کی کلاس میں ہم فرنٹ پیج کے اسٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے فرنٹ پیج 2003 کورن کریں

Start » Microsoft Office » Microsoft Frontpage 2003



FrontPage 2003

کچھ ہی دیر میں فرنٹ پیج 2003 کی مین اسکرین آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی



FrontPage 2003

فرنٹ پیج کے اسٹریکچر میں موجود مختلف اجزاء کی مختصر تفصیل

مینو بار

مینو بار میں 11 مختلف مینوز موجود ہے جس میں مختلف کمانڈز ملیں گے جو فرنٹ پیج پر کام کرنے دوران استعمال ہوتے ہیں۔

ٹولز بار

ٹولز بار میں مختلف کمانڈز کی شارٹ کٹس کو یکجا کیا گیا ہے جس پر کلک کرنے سے متعلقہ ٹول بار کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مختلف ٹولز بار کو غائب اور ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ٹولز بار شامل بھی کیا جاسکتا ہے۔

Status Bar

Status Bar مختلف معلومات فراہم کرتی ہے اور ویب پیج کے ڈاؤن لوڈ ہونے کا وقت بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

Design View

فرنٹ پیج میں تمام تر کام Design View کیا جاتا ہے اور جب بھی کوئی فائل اوپن کی جاتی ہے تو Design View میں ہی اوپن ہوتی ہے۔

Code View

فرنٹ پیج کے Design View میں جو بھی کام کیا جاتا ہے فرنٹ پیج ان کا HTML کوڈ خود کار طریقے سے بناتا ہے ان تمام کوڈز کو Code View میں دیکھا جاسکتا ہے اور ایڈیٹنگ بھی کی جاسکتی ہے۔

Split View

Split View میں Design اور Code View کو ایک ساتھ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔

Preview

Preview میں ہم اپنے ویب پیج کا Preview دیکھ سکتے ہیں۔


فرنٹ پیج کے مین اسکرین کا جائزہ لیتے ہے۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com

Design View

Design

ڈیزائن ویو میں رہتے ہوئے ہم ویب پیج ڈیزائن کرتے ہے۔



www.iqbalkalmati.blogspot.com

Code View

ہم نے جو ویب پیج ڈیزائن کیا ہوتا ہے اور اس میں جو کام کیا ہوتا ہے ان کا HTML کوڈ ہم کو ڈویو میں دیکھ سکتے ہیں۔


```

1 <html>
2
3 <head>
4 <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
6 <title>New Page 1</title>
7 </head>
8
9 <body>
10
11 <div align="center">
12     <!--webbot CLIENTSIDE
13 bot="Ws4FpEx" MODULEID="'Default (Project)\URDUPAGESCOM.xws'" PREVIEW="
15     <!--webbot
16 bot="Ws4FpEx" endspan i-checksum="44699" -->
17 </div>
18 <p> </p>
19 <p><b><font size="7" color="#FF0000">URDUPAGES.COM</font></b></p>
20 <p><b><font size="6" color="#FF00FF">URDUPAGES.COM</font></b></p>
21
22 </body>
23
24 </html>
25

```

Split View

یہاں پر ڈیزائن اور کوڈ ویو کو اکٹھا دیکھا جاسکتا ہے۔



www.iqbalkalmati.blogspot.com

Preview

اس کے ذریعے ہم اپنے ویب پیج کا Preview دیکھ سکتے ہیں کہ ویب پیج کس طرح کام کر رہا ہے۔



Menu Bar

مینو بار میں 11 مینوز کی سہولت موجود ہے جس کے ذریعے مختلف کام کیا جاسکتا ہے

File Edit View Insert Format Tools Table Data Frames Window Help

Tools Bar

ٹولز بار پر مختلف ٹولز کے شارٹ کٹ کی سہولت موجود ہے



Status Bar

اسٹیٹس بار پر پیج کے ڈاؤن لوڈ ہونے وقت اور سائز اور پوزیشن لکھی ہوتی ہے



0:01@56Kbps 575 x 375 Default

فروع محفل کے لیے کوششاں اردو پیجز ڈاٹ کام


خالی پیج اوپن کرنا



بعد دفعہ ہمیں ایک پیج کی ویب سائٹ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر ایک بنی ہوئی ویب سائٹ میں ایک یا ایک سے زائد پیجز کو مزید شامل کرنی کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس وقت ہم ایک خالی پیج کو اوپن کرتے ہیں۔ کسی بھی نئے پیج کو کھولنے کے کئی طریقے ہیں۔ آپ کی بورڈ سے **Ctrl + N** کو پریس کریں، یا پھر فائل مینو میں سے نیو پر کلک کریں اور ٹولز بار میں سے نیو کے شارٹ کٹ ٹول کر کلک کر کے نیا پیج کھولا جاسکتا ہے۔




جب ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ اس میں ہمیں کئی طرح کے Templates نظر آئے ہیں۔ ہم ایک نئی ویب سائٹ بنا رہے ہیں اس Empty Website کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اور آپشن میں ویب سائٹ کے لیے فولڈر کی لوکیشن دینی ہے اس طرح ہماری ویب سائٹ کا ایک فولڈر اس جگہ بن جائے گا اور ہم اپنی ویب سائٹ کا تمام کام اور ڈاکومنٹ اسی فولڈر میں محفوظ کرتے ہیں۔



ویب پیج / پیجز کو محفوظ کرنا

کسی بھی ویب پیج کو محفوظ کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں۔ کی بورڈ سے Ctrl + S پریس کریں، یا فائل مینو بار میں سے سیو پر کلک کریں اور ٹولز بار میں سے Save کے شارٹ کٹ ٹول پر کلک کریں۔




نوٹ: اگر یہ آپ کا ہوم پیج ہے تو اس کا نام index ہی رکھیں اگر یہ ہوم پیج نہیں ہے تو پیج کے مناسبت سے نام رکھیں

پیج ٹائٹل دینا



پیج ٹائٹل سے مراد یہ ہے کہ جب ہم اپنی ویب سائٹ کو براؤز میں اوپن کریں تو پیج پر کیا لکھا ہوا نظر آئے پیج ٹائٹل کو ہم پیج محفوظ کرتے ہوئے بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی







محفل سیکشن


ویب ڈیزائننگ کورس

السلام علیکم !!

ویب ڈیزائننگ میں Buttons کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور Buttons سے ویب پیج کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جاسکتا ہے، یہ Buttons ویب سائٹ کے کسی پیج سے منسلک (لنک) ہوتا ہے۔ فرنٹ پیج ہمیں کئی خوبصورت اور دیدہ زیب Buttons بنانے کی سہولت فراہم کرتا ہے اور فرنٹ پیج میں ایک خوبصورت Buttons کی ایک وسیع تعداد موجودہ ہیں جو کوہم اپنی مرضی سے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فرنٹ پیج میں بٹن کس طرح بنائے جاتے ہیں۔

ہوم پیج کو کھولیں اور جہاں Button لگانا ہے وہاں پر کرسر لے جائے اور انسرت مینو  میں سے Web Component...  پر کلک کریں۔

اس طرح Insert Web Component کی ونڈو کھل جائے گی۔




www.iqbalkalmati.blogspot.com

تمام کام کرنے کے بعد Ok پر کلک کریں اس طرح آپ کے ویب پیج پر Button تیار ہو چکا ہے۔




اس طرح آپ اپنے ویب پیج پر کئی بٹن تیار کر سکتے ہیں۔



www.iqbalkalmati.blogspot.com

اگلی کلاس میں ہم ویب پیج پر سرچ انجن بنانا سیکھے گے۔



Component Type میں سے Dynamic Effects کو سلیکٹ کریں
اور Effects میں سے Interactive Button کو سلیکٹ کر کے Finish پر کلک کریں۔
اس طرح یہ ڈائیلاگ بکس اوپن ہو جائے گا۔





السلام علیکم!!

آج کی کلاس میں ہم دو چیزیں سیکھے گے

ویب پیج میں سرچ انجن بنانا

Marquee بنانا

سرچ انجن کی کارکردگی سے آپ واقف ہی ہونگے Marquee کے بارے میں کچھ وضاحت کر دیتا ہوں

ہم نے اکثر ویب سائٹس پر ٹیکسٹ کو Horizontalally حرکت کرتا ہوا دیکھا ہوگا۔ مثلاً، بہت سے ویب سائٹس میں


ویلم، یا کوئی اناؤسمنٹ کی خبریں وغیرہ جو ویب پیج کے ایک سائڈ نکل کر پیج کے دوسرے سائڈ سے غائب ہو جاتا ہے، اسی

حرکت کرتے ہوئے ٹیکسٹ بار کو Marquee کہتے ہیں۔


ویب پیج میں سرچ انجن بنانا

جب ہم کوئی بڑی ویب سائٹ بناتے ہیں جس میں انفارمیشن (ڈیٹا) زیادہ ہو تو یوزر کی سہولت کے لیے ہم اپنی ویب سائٹ میں سرچ انجن کا استعمال کرتے ہیں۔ عموماً سرچ انجن کو ہوم پیج میں اوپر کی جانب بنایا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ویب سائٹ میں سرچ انجن کو کس طرح شامل کر سکتے ہیں۔

انسٹرت Insert مینو میں سے | Web Component... پر کلک کریں یہ ڈائیلاگ بکس کھل جائے گا۔




اس ڈائلاگ بکس میں سے WebSearch کے آپشن کو منتخب کریں Type میں
Current Web سے Choose a type of search: کو سلیکٹ کر کے Finish کے بٹن پر کلک
کریں۔ مندرجہ ذیل ڈائلاگ باکس کھل جائے گی



اس ڈائلاگ باکس کے ذریعے ہم بٹن کے نام وغیرہ تبدیل کر سکتے ہیں جس کو ہم پروجیکٹ بناتے ہوئے دیکھے گے آپ
(OK کے بٹن پر کلک کریں

اس طرح ہمارے پیج میں سرچ انجن شامل ہو چکا ہے




Search for:

Start Search Reset

Marquee بنانا



ہم اپنی ویب سائٹ میں صرف چند مراحل سے گزر کر Marquee بنا سکتے ہیں انسرٹ مینو میں سے (Web Components) میں سے Dynamic Effects کو سلیکٹ کریں اور Type میں سے (Marquee) سلیکٹ کریں آپ کے سامنے یہ ڈائیلاگ باکس کھل جائی گی۔ اس میں آپ رفتار، اپنی مینیشن ترتیب، کلر وغیرہ سیٹ کریں





محفل سیکشن

ویب ڈیزائننگ کورس

السلام علیکم !!!

ساتھیو!!! ہٹ کاؤنٹر کے متعلق آپ لوگ یقیناً جانتے ہونگے۔ ہٹ کاؤنٹر نوٹ کرتا ہے کہ ہماری ویب سائٹ کو کتنی بار وزٹ کیا گیا ہے اور اس کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے، اس کے علاوہ ہم اپنی ویب سائٹ میں ٹائم اور تاریخ انسرٹ کریں گے۔

ہٹ کاؤنٹر لگانے کا طریقہ

کو سلیکٹ کریں

Web Component...


مینو میں جا کر Web Component

Insert

انسرٹ




آپ کے سامنے یہ ڈائیلاگ باکس کھل جائے گا۔



اس میں سے Hit Counter سلیکٹ کریں اور Types میں سے ہٹ کوؤنٹر کا اسٹائل سلیکٹ کر کے فنش
کا بٹن دبا دیں

آپ کے سامنے یہ ڈائیلاگ باکس کھل جائے گا



ویب ڈیزائننگ کورس

یہاں پر آپ کو ایک دفعہ پھر مختلف اشائل نظر آئے گے اور آپ کا مطلوبہ اشائل سلیکٹ ہوا ہوگا آپ OK کے بٹن پر کلک کر دیں اس طرح آپ کے ویب پیج پر ہٹ کاؤنٹر تیار ہو جائے گا۔

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



ٹائم اور تاریخ داخل کرنا

فرنٹ پیج میں آپ با آسانی ٹائم اور تاریخ کو اپنی ویب سائٹ میں داخل کر سکتے ہیں

انسٹروکشن میں سے Date and Time سے **Date and Time...** پر کلک کریں

یہ ڈائیلاگ باکس کھل جائے گا اس میں تاریخ اور وقت کو ظاہر کرنے کے مختلف فارمیٹ ہیں کوئی بھی ایک

سلیکٹ کریں اور ڈپلے آپشن میں سے **Automatically Update** کو سلیکٹ کریں اور OK کا بٹن دبا دیں



WELCOME ON URDUPAGES.COM

Saturday, February 19, 2005
03:44 PM

ایک نئی تھیم بنانا

تھیم ٹاسک پین میں سے [Create new theme...](#) کلک کریں


یہ ڈائیلاگ باکس کھل جائے گا



پر کلک کریں اس طرح یہ ڈائیلاگ باکس کھل جائے گا

[Colors...](#)

تھیم کا رنگ تبدیل کرنا ہے تو آپ کلر





ویب ڈیزائننگ

السلام علیکم !!!

ساتھیو!!! جب بھی ہم کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں تو پہلے بنیادی مراحل میں بہترین تھیم سلیکٹ کرنا بھی ایک مرحلہ ہے فرنٹ پیج میں ہمیں تھیم کی سہولت بھی موجود ہے اور ہم اپنا تھیم خود بھی بنا سکتے ہیں آج کی کلاس میں ہم کسی ویب پیج پر یا پوری ویب سائٹ پر تھیم اپلائی کرنا سیکھیں گے۔

ایک ویب پیج پر تھیم کا استعمال

کسی بھی ویب سائٹ یا ویب پیج پر کسی تھیم کو اپلائی کرنا انتہائی آسان ہے فارمیٹ مینو میں سے تھیم Theme... کی کمانڈ پر کلک کریں اس طرح ٹاسک پین میں تھیم کی پروپٹی اوپن ہو جائے گی۔

مختلف تھیم: ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کریں




مکمل ویب سائٹ پر تھیم کا استعمال

سابقہ طریقہ کار کے مطابق عمل کریں

پر کلک کریں اور Apply as default theme پر




تھیم پر شارٹ کٹ مینو




کلک کریں

یہ پیج باکس کھل جائے گا آپ Yes پر کلک کریں۔



اس طرح پوری ویب سائٹ پر تھیم اپلائی ہو جائے گی



پر کلک



پر کلک کریں اور ٹیکسٹ




اسی طرح گرافکس میں تبدیلی کے لیے گرافکس
کرنے سے فونٹ وغیرہ تبدیل کیا جاسکتا ہے۔




بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

السلام علیکم !!! ویب ڈیزائننگ کے متعلق ہم کئی بنیادی چیزیں سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم سیکھے گے کہ ویب سائٹ میں بینر، تصاویر، فلیش امیج کس طرح سے شامل کی جاتی ہیں۔

انسٹ مینو میں سے پکچر پر آئے اور فرم فائل کو سلیکٹ کریں




یہ ڈائلاگ باکس کھل جائے گی اس کے ذریعے آپ کمپیوٹر میں موجود کسی بھی ڈرائیو/ فولڈر سے کوئی تصویر سلیکٹ کر کے انسٹ کے بٹن پر کلک کریں اس طرح یہ تصویر آپ کے ویب سائٹ میں شامل ہو جائے گی۔




کلپ آرٹ داخل کرنا

انسٹ مینو میں جا کر پکچر میں سے Clip Art کو سلیکٹ کریں اور ٹاسک پین بار میں سے کوئی بھی Clip Art پر ڈبل کلک کریں اس طرح Clip Art کو ویب پیج میں شامل کیا جاسکتا ہے۔



فلش اینی مینیشن شامل کرنا

انسٹ مینو میں جا کر پکچر میں سے مووی ان فلش فارمیٹ کو سلیکٹ کریں
کھلنے والی ونڈو میں سے فلش اینی مینیشن کو سلیکٹ کریں اور انسٹ بٹن پر کلک کریں۔



اب تک ہم صرف بنیادی چیزیں سیکھتے رہے ہیں مزید کلاسز میں ٹیبل پر بات ہوگی اور اس کے بعد ہم
ایک ویب سائٹ کا پروجیکٹ بنائے گے جس کی تفصیل انشاء اللہ آئندہ کلاسز میں ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ


ویب ڈیزائننگ

السلام علیکم !!!

فرنٹ پیج جہاں ہمیں بہت ساری سہولتیں فراہم کرتا ہے وہ فرنٹ پیج کے ذریعے ہم مختلف مشہور ویب سائٹس کے مختلف کمپونینٹس کو بھی اپنے ویب سائٹ میں چند لمحوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ مثلاً MSN Search کی سہولت، دنیا کے مختلف نقشے، مختلف MSNBC کی آن لائن سہولت وغیرہ۔ ان تمام آن لائن کمپونینٹس کو اپنی ویب سائٹ میں شامل کے لیے ہمارا آن لائن ہونا ضروری ہے آف لائن ہونی کی صورت میں ان کمپونینٹس کو ویب سائٹ میں شامل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھے گے فرنٹ پیج کے ذریعے MSN سرچنگ کی سہولت کس طرح اپنی ویب سائٹ میں شامل کریں گے۔

ویب ڈیزائننگ



انسرٹ مینو میں جا کر "ویب کمپونینٹس" پر کلک کریں۔ یہ ڈائیلاگ باکس کھل جائے گا اس میں MSN Components کو سلیکٹ کر کے فنکشن کے بٹن پر کلک کریں۔





ویب ڈیزائننگ

اس طرح آپ کے ویب سائٹ میں MSN سرچنگ ٹول بار انسٹرٹ ہو جائے گا۔ اور آپ یوزر کو اپنے ویب سائٹ پر ہی سرچنگ کی سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔





ویب ڈیزائننگ

السلام علیکم ساتھیو!!! ویب ڈیزائننگ میں ٹیبلز کا استعمال بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج کی کلاس میں ہم ٹیبلز کے متعلق کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹیبل سلیز کی قطاروں اور کالموں پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور ٹیبلز میں ہم ٹیکسٹ اور گرافکس پر مبنی آجیکٹ دونوں کو انسرٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیبل میں ہم مختلف معلومات (جو کہ ٹیکسٹ پر مبنی) دیں سکتے ہیں۔ جیسے کہ شیڈول، ٹائم ٹیبل، پراڈکٹ، ریٹ اور بہت سے

ٹیبل

معلومات کو مختلف اور خوبصورت انداز میں جمع کر سکتے ہیں۔

No.	A	B	C	D
1	29	25	34	85
2	35	25	45	98
3	24	26	48	24
4	52	82	48	35
5	45	35	62	48
6	25	75	85	25
7	45	37	58	64



ویب ڈیزائننگ

یہ دیکھے پیرائیک ٹیبل کو ٹیبل کے ذریعے ترتیب دیا گیا ہے۔

Group	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Period																		
1	1 <u>H</u>																	2 <u>He</u>
2	3 <u>Li</u>	4 <u>Be</u>											5 <u>B</u>	6 <u>C</u>	7 <u>N</u>	8 <u>O</u>	9 <u>F</u>	10 <u>Ne</u>
3	11 <u>Na</u>	12 <u>Mg</u>											13 <u>Al</u>	14 <u>Si</u>	15 <u>P</u>	16 <u>S</u>	17 <u>Cl</u>	18 <u>Ar</u>
4	19 <u>K</u>	20 <u>Ca</u>	21 <u>Sc</u>	22 <u>Ti</u>	23 <u>V</u>	24 <u>Cr</u>	25 <u>Mn</u>	26 <u>Fe</u>	27 <u>Co</u>	28 <u>Ni</u>	29 <u>Cu</u>	30 <u>Zn</u>	31 <u>Ga</u>	32 <u>Ge</u>	33 <u>As</u>	34 <u>Se</u>	35 <u>Br</u>	36 <u>Kr</u>
5	37 <u>Rb</u>	38 <u>Sr</u>	39 <u>Y</u>	40 <u>Zr</u>	41 <u>Nb</u>	42 <u>Mo</u>	43 <u>Tc</u>	44 <u>Ru</u>	45 <u>Rh</u>	46 <u>Pd</u>	47 <u>Ag</u>	48 <u>Cd</u>	49 <u>In</u>	50 <u>Sn</u>	51 <u>Sb</u>	52 <u>Te</u>	53 <u>I</u>	54 <u>Xe</u>
6	55 <u>Cs</u>	56 <u>Ba</u>	* <u>Lu</u>	71 <u>Hf</u>	72 <u>Ta</u>	73 <u>W</u>	74 <u>Re</u>	75 <u>Os</u>	76 <u>Ir</u>	77 <u>Pt</u>	78 <u>Au</u>	79 <u>Hg</u>	80 <u>Tl</u>	81 <u>Pb</u>	82 <u>Bi</u>	83 <u>Po</u>	84 <u>At</u>	85 <u>Rn</u>
7	87 <u>Fr</u>	88 <u>Ra</u>	** <u>Lr</u>	103 <u>Rf</u>	104 <u>Db</u>	105 <u>Sg</u>	106 <u>Bh</u>	107 <u>Hs</u>	108 <u>Mt</u>	109 <u>Ds</u>	110 <u>Rg</u>	111 <u>Uub</u>	112 <u>Uut</u>	113 <u>Uug</u>	114 <u>Uup</u>	115 <u>Uuh</u>	116 <u>Uus</u>	117 <u>Uuo</u>
*Lanthanoids			* <u>La</u>	57 <u>Ce</u>	58 <u>Pr</u>	59 <u>Nd</u>	60 <u>Pm</u>	61 <u>Sm</u>	62 <u>Eu</u>	63 <u>Gd</u>	64 <u>Tb</u>	65 <u>Dy</u>	66 <u>Ho</u>	67 <u>Er</u>	68 <u>Tm</u>	69 <u>Yb</u>	70	
**Actinoids			** <u>Ac</u>	89 <u>Th</u>	90 <u>Pa</u>	91 <u>U</u>	92 <u>Np</u>	93 <u>Pu</u>	94 <u>Am</u>	95 <u>Cm</u>	96 <u>Bk</u>	97 <u>Cf</u>	98 <u>Es</u>	99 <u>Fm</u>	100 <u>Md</u>	101 <u>No</u>	102	

ویب ڈیزائننگ

ٹیبل میں گرافکس کا استعمال

PICTURE 1



PICTURE 2

